

برامپٹن، تمام فروخت کنندگان کو شہر کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے، خوش آمدید کہتا ہے

برامپٹن، آن (2 اپریل 2019) – سٹی آف برامپٹن فروخت کنندگان کو سٹی کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے لوگوں، ٹولز اور عمل درآمد سے مربوط کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے بروز جمعرات، 2 مئی کو صبح 9:30 سے دن 12:30 تک سٹی ہال میں اپنے دوسرے اینونل ریورس وینڈر ٹریڈ شو اور سیمینارز کا انعقاد کر رہا ہے۔

اگر فروخت کنندگان کے پاس ایسی کوئی چیزیں یا خدمات موجود ہیں، جو وہ سٹی آف برامپٹن کو بیچنا چاہتے ہوں، مگر انہیں معلوم نہ ہو کہ ایسا کیسے کرنا ہے، تو 2 مئی ان کے لیے یاد رکھنے کا دن ہے۔ شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو www.brampton.ca/ReverseVendorTradeshaw پر آن لائن رجسٹریشن کروانی ہو گی۔

ٹریڈ شو پر، سٹی کے مختلف محکموں سے نمائندگان سوالات کے جواب دینے اور سٹی کے ساتھ کاروبار کرنے کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ فروخت کنندگان کے پاس سٹی کے عملے سے مربوط ہونے اور ان کاروباری شعبوں کی اقسام کے بارے میں جاننے کا موقع موجود ہو گا، جن میں وہ بولی دے سکتے ہیں۔

ٹریڈ شو کے ساتھ چلنے والے مختصر سیمینار اس چیز پر مرکوز ہوں گے کہ سٹی کے ساتھ کاروباری کیسے کرنا ہے۔

پچھلے سال برامپٹن میں ریورس وینڈر ٹریڈ شو کے ساتھ متعارف ہونے کے بعد سٹی کے پاس 120 سے زائد نئے فروخت کنندگان نے اپنی رجسٹریشن کروائی ہے۔

سرخیاں

- ریورس وینڈر ٹریڈ شو بروز جمعرات، 2 مئی کو صبح 9:30 سے دن 12:30 تک کنزرویٹری، سٹی ہال، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ میں منعقد ہو گا۔
- سٹی آف برامپٹن کے مختلف محکموں کے نمائندگان بات چیت کے لیے موجود ہوں گے۔
- صبح 10 سے 10:30 تک اور 11:30 سے دوپہر تک ویسٹ ٹاور (WT) ٹریننگ روم 2A میں 30 منٹ پر مشتمل سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا۔ ان میں اس بات پر توجہ مرکوز ہو گی کہ سٹی کے ساتھ کاروباری کیسے کرنا ہے۔
- فروخت کنندگان کو BidsandTenders.ca website پر رجسٹر ہونے میں مدد دینے کے لیے عملہ موجود ہو گا۔
- 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ اور 41 جارج اسٹریٹ ساؤتھ پر زیر زمین پارکنگ دستیاب بھی ہو گی۔

اقتباس

"برامپٹن تمام کاروباروں، چھوٹے ہوں یا بڑے، کو یہ جاننے کے لیے شرکت کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ سٹی کے ساتھ کاروبار کیسے کرنا ہے۔ ہر سال، سٹی اشیاء، خدمات اور تعمیر کی مد میں \$250 ملین سے زائد رقم حاصل کرتا ہے۔ ریورس وینڈر ٹریڈ شو فروخت کنندگان کے لیے سٹی کے مختلف محکموں کے عملے سے ذاتی طور پر میل جول کرنے اور اپنے سوالات کے جواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہم مقامی کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے اور ان کے لیے فروخت کے منصفانہ اور شفاف طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca